



ایک یہودی نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے محمد! اللہ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، تمام پہاڑوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، تمام درختوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر روک لے گا اور پھر کہے گا: میں بادشاہوں میں

عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے محمد! اللہ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، تمام پہاڑوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، تمام درختوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر روک لے گا اور پھر کہے گا: میں بادشاہوں میں اس پر رسول اللہ انس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا"

[صحیح] [متفق علیہ]

یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو اپنے بزرگی والے عظیم ہاتھ کی انگلیوں میں سے ایک انگلی پر رکھ لیں گے یہودی نے ان مخلوقات کا ذکر کیا جو بڑے حجم اور عظمت کے لحاظ سے معروف ہیں اور بیان کیا کہ ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر رکھ لیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو اور ان میں موجود جو مخلوقات ہیں، انہیں اپنے ہاتھ کی صرف ایک ہی انگلی پر رکھ لیں یہ بطریق وحی انبیا علیہم السلام سے ملنے والے علم میں سے ہے اسی وجہ سے نبی نے یہودی کے کلام کی تصدیق کی، بلکہ آپ کے اس کی بات پسند آئی اور آپ نے اس سے خوش ہوئے یہی وجہ ہے کہ آپ نے انس دیا یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے یہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے اس کی بات کی تصدیق تھی، جیسا کہ ایک اور روایت میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ "اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہی تھی، نہ میں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائرے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے، جسے لوگ اس کا شریک بنائیں" اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے دو باتوں کا اثبات ہے آپ نے اسے یہودی نے جو بات کہی تھی، اس کی تاکید اور اثبات کے لیے تلاوت کیا اس لیے اس سلسلے میں ان لوگوں کے قول کی طرف چنداں توجہ نہیں کی جائے گی جو مذہب تعطیل کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیوں کی صفت کی نفی کرتے ہیں، اس گمان میں کہ اللہ کے لیے انگلیوں کے اثبات کی وجہ سے اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے حالانکہ یہ تعطیل کرنے والا شخص ہے نہ میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت کے اثبات سے تشبیہ لازم نہیں آتی بالکل ایسے ہی، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حیات، قدرت، قوت، سماعت اور بصارت جیسی صفات کا اثبات کرتے ہیں اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اپنے مخلوق سے مشابہت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے"



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

